



سوال

(345) ٹخنے سے ٹخنے ملانے کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

نعمان بن بشیر کی روایت میں ٹخنے سے ٹخنے ملانے کا ذکر ہے جب کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صرف قدم سے قدم ملانے کا ذکر ہے۔ حاضر روپڑی ٹخنے سے ٹخنے ملانے کے قائل نہیں۔ ٹخنے ملانے کے لیے پاؤں اندر کی طرف موڑنا پتا ہے جس سے انگلیاں قبل رُخ نہیں رہتیں۔ زیادہ دیر کھڑے رہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کیا حدیث روپڑی کا اجتہاد درست ہے کہ ٹخنے سے ٹخنے نہیں ملانا چاہیے؟

اجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

ہمارے شیخ محمدث روپڑی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ”فتاویٰ اہل حدیث“ (۱۹۹ ۲) میں درج ہے۔ اس میں انہوں نے نمازی کی اضطرابی کیفیت کی تردید کی ہے۔ جس سے آپ کا مدعای مترش ہونا ممکن ہے، صراحت نہیں۔ اصل بات یہ ہے، کہ نمازیں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملانا چاہیے۔ جس طرح کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ اس کو ملانے کی کیفیت میں تردود ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہے۔

گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر انگلیوں کے اطراف کو ملاتے ہیں۔ اس طرح سے صحیح مسنون کیفیت کا پیدا ہونا واقعی مشکل امر ہے، لیکن اگر ابتداء میں ہی اطراف انگلیوں کی بجائے قدموں کے ملانے سے آغاز کیا جائے تو مشکل خود بخود حل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے پچھوٹے بڑے قدم کا انتیاز بھی غالباً ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ پچھوٹے بڑے قدم کی صورت میں کندھوں کی انتیازی کیفیت باقی رہتی ہے۔ بعض دفعہ پاؤں میں بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو کچھ بیان ہوا۔ عام جسمانی ساخت کے اعتبار سے ہے۔ خواہ یہ حکم تمام کو شامل نہیں۔ ہاں اپنی نیک نیت کی بناء پر اجر و ثواب سے وہ شخص محروم نہیں۔ (ان شاء اللہ) مسنون کیفیت کو قائم رکھنے کا جذبہ اگر جانشینی سے ہو، تو پھر کوئی ایسی ابھی پیدا نہیں ہوتی جس سے نمازیں خلل و لعنة ہو۔ باعث تشویش وہ صورت ہے جب جانشینی سے عملی اتفاق کا مظاہرہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں مزید ابھائوں میں نہیں پڑا چاہیے، تاکہ نمازی بحالت نماز عمل کثیر سے محفوظ رہ سکے جس کی وجہ سے نمازیں نقص پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے قاری نعیم الحق نعیم رقطراز ہیں:

”جن احادیث میں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملانے کا ذکر آتا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ تمام نمازی صفات میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو مارور درمیان میں خالی گہم نہ چھوڑیں۔ کسی کے قدیاً قدم کا پچھوٹا بڑا ہونا اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ باقی رہی بات قدرتی ساخت کی تو اس سلسلے میں عرض ہے، کہ اگر کسی کے قدموں کا رُخ کچھ ہی باہر کی جانب ہو اور انہیں سیدھا کرنا تکلیف کا سبب بنتا ہو، تو لیسے شخص کو تو اس حکم سے مستثنی بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ لا يُغْلِطُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لیکن عام



محدث فتویٰ
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL OF AMERICA

طور پر لوگوں کے قدم تھوڑی سی کوشش اور معمولی سے اہتمام سے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ امام، مقتدی اور منفرد سب ہی کو حکم ہے، کہ ان کے جسم قدموں سمیت قبلہ رخ ہوں۔ اس حکم کی پابندی سے احتراز کرنے کے لیے خواہ غواہ عذر اور حیلے نہیں تلاشنا چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدموں کو سیدھا کرنے کی کوشش دراصل نماز اور زندگی کو سیدھا اور قبلہ رخ کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں نماز میں خلپنے کے بجائے نماز اور زندگی کی اصلاح اور درستی ہوتی ہے۔ ہماری اس مختصر سی بحث سے امید ہے کہ اس بارے میں واردِ حملہ اشکالات رفع ہو جائیں گے۔

هذا عندی والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدینی

کتاب الصلوٰۃ: صفحہ: 317

محمد فتویٰ